

## رمضان کیوں آیا ہے؟

مفتی محمد تقیٰ حنفی

تائب صدر جامعہ دارالعلوم کراچی

اسلام سے باہر نظر دوڑا کر دیکھئے تو محسوس ہو گا کہ دنیا بھر کے گھری نظامِ کلیتہ انسان کے دماغ کو مخاطب کرتے ہیں اور نہ ہب و تصرف خالصتاً اس کے دل کو۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کی الگ الگ بادشاہی ہے جس پر وہ بلا شرکت غیرے سکرانی کرتے ہیں اور وہ بادشاہ نہ صرف یہ کہ ایک "قلیم" میں نہیں ساتھ بلکہ بسا اوقات ایک دوسرے سے برس پہنچا رنگرازی آتے ہیں لیکن اسلام یہک وقت انسان کے دل و دماغ دونوں سے اس طرح خطاب کرتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی رسمی کشی پیدا نہیں ہوتی کہ انہیں ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دے۔ اس کے بجائے ابتدائیہ دونوں اپنی حدود تعین کر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور بالآخر ایک دوسرے میں گھل مل کر اس طرح شیر و شکر ہو جاتے ہیں جیسے دور یاؤں کا سکشم ایک حصہ پر جا کر دونوں کو سمجھا کر دیتا ہے یہ وہ مرحلہ ہے جہاں دل کو "عشق و محبت" کے ساتھ "سوچنا سمجھنا" بھی آ جاتا ہے اور دماغ میں "سوچنے سمجھنے" کے ساتھ "عشق و محبت" کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

اس لطیف حقیقت کو پہنچ نظر کرنے ہوئے جس کی لفاظت بیان سے زیادہ اور اک میں ہے اگر انسان قرآن کریم کی ان آیات پر غور کرے جن میں "سوچنے سمجھنے" کو دماغ کے بجائے "قلب" کی صفت قرار دیا گیا ہے تو اس کلام الٰہی کے اعجاز کے آگے گفراحت و بلاغت کی پوری کائنات بجدہ ریز نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر!

مخقر ایکہ اسلام کی تعلیمات عقل اور عشق کا ایک ایسا حسین آمیزہ ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک عنصر کو بھی ختم کر دیا جائے تو اس کا سارا حسن ختم ہو جاتا ہے اگر عقائد و عبادات کا نظام عقل سے بالکل یہ آزاد ہو جائے تو کوئی توہم پرست یا دیوالی نہ ہب وجود میں آ جاتا ہے اور اگر عقل کو وہی پرمنی عقائد و عبادات سے آزاد کر دیا جائے تو وہ کسی

ایسے خلک سیکولار نظریہ کو جنم دے کر رک جاتی ہے جو مادے کے اس پار دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے مجہے دونوں صورتوں میں محرومی ہے کہیں جسم کے جائز تقاضوں سے کہیں روح کے حقیقی مطالبات سے۔ جب سے سیکولار اسلام کے مقابلے کی ضرورت کے تحت اسلام کی سیاسی، معاشری اور معاشرتی تعلیمات پر ہمارے عہد کے مفکرین اور اہل قلم نے زیادہ زور دینا شروع کیا ہے اس وقت سے بعض حضرات نے شوری یا غیر شوری طور پر عقائد و عبادات کو پس منظر میں ڈال کر انہیں ٹانوی تیشیت دے دی ہے اور انہیں وہ اہمیت دینا چھوڑ دیا ہے جو فی الواقع انہیں حاصل ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان ایک "معاشری جانور (Economic Animal)" ہو کر رہ گیا ہے اور اس کی ساری دوڑ و ہوپ اس جسم کو پالنے پونے کی حد تک محدود ہے جو ایک نہ ایک دن مٹی میں مل جانے والا ہے۔ اسے روحانی ترقی کے ان مدارج کی کوئی فکر نہیں جو درحقیقت انسان کو دوسرا سے جانوروں سے متاثر کرتے ہیں اور جن کی بدولت وہ مٹی سے مٹنے کے باوجود بھی زندہ جاویدہ رہتا ہے۔

جو لوگ مادی منافع اور نفسانی لذتوں ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں ذرا ان کی اندر وہی زندگی میں جماں کر دیکھنے والے دوست میں ایک دل سے کتنے محروم ہیں؟ راحت و آرام کے سارے اسباب و وسائل اپنے پاس رکھنے کے باوجود "سکون قلب" کی دولت سے کتنے محروم ہیں؟ اس لئے کہ انہوں نے اپنے گرد و پیش میں جو دنیا بنائی ہے وہ چاہے دنیا کے سارے خزانے لاکران کے قدموں پر ڈھیر کر سکتی ہو لیکن قلب کو سکون اور روح کو قرار بخشنا اس کے بس کی بات نہیں۔ یہ خدا نا آشنا زندگی کا لازمی خاصہ ہے کہ اس کے شیدائی ایک انجامی ہی بے قراری کا شکار رہتے ہیں۔ اس بے قراری کا ایک کرب انگیز پہلو یہ ہے کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بے قرار کیوں ہیں؟ وہ ہمہ وقت اپنے دل میں ایک نامعلوم اضطراب اور پراسرار کم محسوس کرتے ہیں لیکن یہ اضطراب کیوں ہے، کس لئے ہے، وہ نہیں جانتے۔

انسان اس کائنات کا خالق و مالک نہیں وہ کسی کی مخلوق ہے۔ اس کا مقصد زندگی ہی یہ ہے کہ وہ کسی کی بندگی کرے۔ اس لئے اس کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی لا قابلیتی کے آگے سر گھوٹو ہو، اس کی عظمتوں پر اپنے عجز و نیاز کی پوچھی نچحاور کرے، مصائب میں اس کے نام کا سہارا لے، اسے مدد کے لئے پکارے اور زندگی کے مشکل ترین لمحات میں اس کی توفیق سے رہنمائی حاصل کرے۔ آج کی ماہ دیہ پرست زندگی اسے خواہ دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر سکتی ہو لیکن اس کی افسوسی خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتی۔ انسان کی یہ فطرت بعض اوقات نفسانی خواہشات کے انبار میں دب تو جاتی ہے لیکن مٹی نہیں اور سبی وہ چھپی ہوئی فطری خواہش ہے جو اسے کیف و نشاط کے سارے وسائل مل جانے کے باوجود اہرام نہیں لینے دیتی اور بعض اوقات اس کی زندگی کو اجرین بنا کر چھوڑتی ہے۔

پول زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر      جیسے کوئی گناہ کئے جا رہا ہوں میں

اسلام کی تعلیمات میں "عبادات" کا شعبہ اسی مقصد کے لئے رکھا گیا ہے کہ اگر ان پر نیک نمیک عمل کر لیا جائے

تو عبادات کے یہ طریقے انسان کی روح کو حقیقی غذا فراہم کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے رشتے کو مضبوط اور مستحکم بناتے ہیں اور جسم و روح کے تقاضوں میں توازن پیدا کر کے انسان کو ایک ایسے نقطہ اعتدال تک پہنچاتے ہیں جو درحقیقت سکون و اطمینان کا دوسرا نام ہے۔

قرآن کریم کا ارشاد ہے:

”ترجمہ نیادِ رکو! اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔“

رمضان کا مقدس مہینہ ہر سال اس لئے آتا ہے کہ سال کے گیارہ مہینے انسان اپنی ماڈی مصروفیات میں اتنا منہج رہتا ہے کہ وہی مصروفیات اس کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں اور اس کے دل پر روحانی عمل سے غفلت کے پردے پڑنے لکھتے ہیں، عام دنوں کا حال یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے کی مصروفیات میں خالص عبادتوں کا حصہ بہت کم ہوتا ہے اور اس طرح انسان اپنے روحانی سفر کی پہنچ پہنچ رہا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس مبارک مہینے میں وہ جسمانی غذا کی مقدار کم کر کے روحانی غذا میں اضافہ کر دے اور اپنے جسمانی سفر کی رفتار را دھیمی کر کے روحانی سفر کی رفتار بڑھادے اور ایک مرتبہ پھر دنوں کا توازن درست کر کے اس نقطہ اعتدال پر آجائے جو اس زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اگر ذرا بغور سے دیکھیں تو اسی نقطہ اعتدال پر پہنچنے کی صرفت ہے جس کا جشن ”عید الفطر“ کی صورت میں مقرر کیا گیا ہے۔

لہذا رمضان المبارک صرف روزے اور تراویح ہی کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اس مہینے میں نفلی عبادات کی طرف بھی خصوصی توجہ دے اور اس کی حق تلفی کے بغیر اگر اپنے اوقات کو ماڈی مصروفیات سے فارغ کر سکتا ہے تو انہیں فارغ کر کے زیادہ نوافل، بتاویں اور ذکر و سُبیع میں صرف کرے۔ ”کسی کی حق تلفی کے بغیر“ میں نے اس لئے کہا کہ اگر کوئی شخص کہیں ملازم ہے تو ذیویٰ کے اوقات میں اپنے فرائض منصی چھوڑ کر نفلی عبادات میں مشغول ہونا شرعاً جائز نہیں۔ البتہ اگر اس کے پاس اپنے فرائض منصی سے متعلق کوئی کام نہیں ہے اور وہ خالی بیٹھا ہوا ہے تو بات دوسری ہے۔

لیکن کسی کی حق تلفی کے بغیر بھی رمضان میں اپنی ماڈی مصروفیات ہر شخص کچھ ضرور کم کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو ایسے مشاغل سے فارغ کر سکتا ہے جو یا تو غیر ضروری ہیں یا انہیں موخر کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح جو وقت ملے اسے نفل عبادتوں، ذکر اور دعاء میں صرف کرنا چاہئے۔

اس کے علاوہ جو بات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے دن میں انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کھانا پیا چھوڑ دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے قاضے سے وہ چیزیں ترک کر دیتا ہے جو عام حالات میں اس کے لئے حلال تھیں اب یہ کتنی ستم ظرفی کی بات ہو گی کہ انسان روزے کے قاضے سے حلال کام تو

ترک کر دے لیکن وہ کام بدستور کرتا رہے جو عام حالات میں بھی حرام ہیں۔ لہذا اگر کھانا پینا چھوڑ دیا مگر جھوٹ، غبیت، دل آزاری، رشوت ستانی وغیرہ جو ہر حالت میں حرام کام تھے وہ نہ چھوڑے تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ایسا روزہ انسان کی روحانی ترقی میں کتنا مدد گار ہو سکتا ہے؟

لہذا رمضان المبارک میں سب سے زیادہ اہتمام اس بات کا ہونا چاہئے کہ آنکھ، زبان، کان اور جسم کے تمام تر اعضاء ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رہیں، اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنایا جائے کہ کوئی قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ اٹھے۔

رمضان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”ایک دوسرے کی غم خواری کا مہینہ“ قرار دیا ہے۔ اس مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات بھی بہت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اس لئے رمضان میں ہمیں بھی صدقہ و خیرات، دوسروں کی ہمدردی اور ایک دوسرے کی معاونت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہئے۔

یہ صلح و صفائی کا مہینہ ہے لہذا اس میں جگنوں سے اجتناب کا بھی خاص حکم دیا گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ”اگر کوئی شخص تم سے لڑائی کرنا چاہے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔“ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان صرف سحری اور اظماری کا نام نہیں بلکہ یہ ایک تربیتی کورس ہے جس سے ہر سال مسلمانوں کو گزارا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا تعلق اپنے خالق و مالک کے ساتھ مضمبوط ہو، اسے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی عادت پڑے، وہ ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے اپنے اخلاق رذیلہ کو پہلے اور اعلیٰ اوصاف و اخلاق اپنے اندر پیدا کرے۔ اس کے اندر نیکیوں کا شوق اور گناہوں سے پریز کا جذبہ پیدا ہواں کے دل میں خوف خدا اور فکر آخرت کی شرع روشن ہو جو سے رات کی تاریکی اور جنگل کے دریانے میں بھی غلط کاریوں سے محفوظ رکھ سکے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے اور قرآن کریم نے اسی کو روزوں کا صلی مقصد قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے:

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔“

جو شخص ”تقویٰ“ کے اس تربیتی کورس سے ٹھیک ٹھیک گزر جائے اس کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبخبری عطا فرمائی ہے۔ ”جس شخص کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔“ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان ہمیں سال بھر کی سلامتی سے ہمکنار کرنے کے لئے آیا ہے، بشرطیکہ ہم سلامتی چاہتے ہوں اور یہ سلامتی حاصل کرنے کے لئے اس ماہ مقدس کا استقبال اور اکرام و اعزاز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آمین۔

